

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن  
جامعہ ملیہ اسلامیہ  
1، جولائی 2020

پریس ریلیز  
مصنوعی ذہانت ، بگ ڈیٹا تجزیات ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور انٹرنیٹ پر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بین الاقوامی  
سمپوزیم کا اہتمام

ڈیپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 30 جون 2020 کو 'کمپیوٹر سائنس اور حالیہ  
ٹیکنالوجیز' کے موضوع پر ایک روزہ آن لائن بین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد کیا۔ اس دوران بگ ڈیٹا  
اینالٹکس ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ، انٹرنیٹ اور مصنوعی ذہانت جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

سمپوزیم ٹیکنالوجی کا مستقبل ، ان کے ارتقاء اور مختلف ڈومینز میں ایپلی کیشنز پر مرکوز تھا۔

سمپوزیم میں جو موضوعات زیر بحث آئے ان میں مصنوعی ذہانت کا فی اہم تھا ، جو فی زمانہ انسانی  
زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر رہا ہے ۔ تاہم اس کی طاقت صرف اس وقت تک کارگر ہوتی ہے جب  
اسے بگ ڈیٹا اینالٹکس ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور انٹرنیٹ جیسے ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جاتا ہے ،  
ماہرین نے اس سے بھی آگے کیسے ٹیکنالوجی کا استعمال ہو اس پر گفتگو کی ۔

اس سمپوزیم کا اہتمام جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ کمپیوٹر سائنس نے کیا تھا۔

افتتاحی خطبہ پروفیسر (ڈاکٹر) سیمی فرحت بشیر ، ڈین ، فیکلٹی آف نیچرل سائنسز اور پروفیسر ایس ایم  
کے قادری ، ہیڈ ڈیپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے پیش کیا ۔

پروفیسر راجکمار بوییا (ڈائریکٹر ، سی ایل او ڈی ایس لیب ، یونیورسٹی آف میلبورن ، آسٹریلیا اور سی  
ای او ، منجر اسافٹ ، آسٹریلیا) ، پروفیسر لطیف الرحمان خان ( ٹیکساس یونیورسٹی ، ڈیپارٹمنٹ آف  
کمپیوٹر سائنس ، ڈلاس امریکہ ) ڈلاس ، امریکہ کے پروفیسر لطیفور خان کے چار تکنیکی سیشن ہوئے۔  
پروفیسر ونود شرما (ڈیپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ، یونیورسٹی آف جموں ) اور  
ڈاکٹر ژیفینگ لیو (ڈیپارٹمنٹ آف ٹیکنالوجی ، مینجمنٹ اینڈ اکنامکس ، ٹیکنیکل یونیورسٹی آف ڈنمارک)  
وغیرہ نے سمپوزیم میں شرکت کی ۔

اس سمپوزیم میں شامل موضوعات نے ان آنے والی ٹیکنالوجی کے بارے میں شرکا کو معلومات فراہم کی  
جس میں دنیا بھر کے ماہرین نے اپنی بات رکھی ۔

احمد عظیم  
پی ار او میڈیا کوآرڈینیٹر